

برائے فوری اجراء

برامپٹن ٹرانزٹ کووڈ-19 کے ردعمل میں اپنے مسافروں میں 100,000 ماسک تقسیم کرے گا

برامپٹن، آن (11 جون 2020) – مورخہ 10 جون کو، میئر پیٹرک براؤن نے کونسل کی جانب سے اعلان کیا کہ سٹی آف برامپٹن کے دوبارہ کھلنے اور بحالی کے منصوبے کے پہلے قدم کے طور پر برامپٹن ٹرانزٹ 22 جون کے ہفتے سے شروع کرتے ہوئے ٹرانزٹ کے مسافروں میں 100,000 نان میڈیکل ماسک تقسیم کرے گا۔

نان میڈیکل ماسک برامپٹن ٹرانزٹ کے برامیلا، برامپٹن گیٹ وے اور ڈاؤن ٹاؤن ٹرمینلز پر تقسیم کیے جائیں گے۔

آنے والے ہفتوں میں مزید تفصیلات کا اعلان کیا جائے گا۔

پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے نقل و حمل کی عوامی سہولیات میں ماسکس پہننے کی سفارش کے بعد، موجودہ طور پر برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں سے پرزور سفارش کی جاتی ہے کہ وہ اس وقت بسوں اور ٹرمینلز پر نان میڈیکل ماسک پہنیں۔ مورخہ 2 جولائی سے شروع کرتے ہوئے برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافروں اور آپریٹرز کے لیے نان میڈیکل ماسک پہننا لازمی ہو گا، جب کرایے کی ادائیگیوں اور اگلے دروازے سے بیٹھنے کے عمل کو دوبارہ شروع کیا جائے گا۔

جبکہ ماسک لازمی ہوں گے، دو سال سے کم عمر بچے یا ایسی معذوریوں یا دیگر طبی مسائل، جو انہیں ماسک پہننے سے روکتے ہیں، کے حامل لوگوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہو گا۔

غیر طبی ماسکس کے حوالے سے مزید معلومات، بشمول یہ کہ اپنے غیر طبی ماسک کو کیسے درست طریقے سے پہننا، فٹ کرنا، ہٹانا اور صاف کرنا ہے، پیل پبلک ہیلتھ کی [ویب سائٹ](#) اور حکومت اونٹاریو کی [ویب سائٹ](#) ملاحظہ کریں۔

کرونا وائرس (کووڈ-19) کے لیے حفاظتی اقدامات

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کی اضافہ شدہ کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ نے تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کے کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو ہر 48 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف مقرر کیا ہوا ہے۔ زیادہ تر بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کی ٹھوس سطحوں کی صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔

سٹی مسافروں پر زور دیتا ہے کہ وہ ٹرمینلز اور بس اسٹاپس اور یہاں تک کہ ماسک پہنتے ہوئے بھی جسمانی فاصلہ بندی پر عمل کریں۔ مسافروں کو اس بات کی بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اپنی ذاتی جراثیم کش، مثلاً ہینڈ سینیٹائزر یا وائپس، ساتھ رکھیں، کثرت سے اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنی کہنی میں کھانسیں یا چھینکیں۔

کووڈ-19 کے دوران خطرے پر گہری نظر رکھنے کے لیے سٹی آف برامپٹن پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجنسی منیجمنٹ آفس کے ساتھ قریبی طور پر اور مل جل کر کام کر رہا ہے۔ باقاعدہ اپ ڈیٹس کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا Twitter پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ کسی قسم کے سوالات برامپٹن ٹرانزٹ کے کنٹیکٹ سنٹر سے 905.874.2999 پر پوچھے جا سکتے ہیں۔

اقتباسات

مجھے اس بات کا اعلان کرنے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم برامپٹن ٹرانزٹ کے ٹرمینلز پر مسافروں میں 100,000 نان میڈیکل ماسک تقسیم کریں گے۔ اگر آپ برامپٹن ٹرانزٹ کے مسافر ہیں، تو میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ آپ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے ایک غیر طبی ماسک لیں اور بسوں اور ٹرمینلز پر پہنیں اور اس حوالے سے پیل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی رہنما ہدایات پر

عمل کریں کہ تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا غیر طبی ماسک کیسے پہننا، فٹ کرنا، اتارنا اور صاف کرنا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"صحت و سلامتی ہماری سٹی کونسل کے لیے اولین ترجیح ہے، خصوصاً جب رہائشیوں کو کووڈ-19 کے دوران محفوظ رکھنے کی بات ہو۔ ہم مسافروں کے لیے برامپٹن ٹرانزٹ پر سفر کرتے ہوئے نان میڈیکل ماسک حاصل کرنا آسان بنا رہے ہیں - جب تک ان کی فراہمی ممکن ہے، روزانہ اپنے کام پر جانا آسان ہو گا۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"چونکہ سٹی آف برامپٹن دوبارہ کھل رہا ہے اور کووڈ-19 سے بحال ہو رہا ہے، ہم اپنی کمیونٹی کو ایک صحت مند اور محفوظ ٹرانزٹ سروس فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پبل پبلک ہیلتھ اور حکومت اونٹاریو کی جانب سے رہنمائی کے ساتھ، ہم ان ماسک کو محفوظ اور صحت مند طریقے سے مسافروں تک پہنچانے کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca